



سوال

(84) زیارت مدینہ

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

کیا فرماتے ہیں، علماء دین اس مسئلہ میں کہ حدیث من حج ۱ واعتمر ولم یزرنی فقہ حنفی کیسی ہے قابل عمل ہے یا نہیں۔ ینوا تو جروا

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

یہ حدیث باہم لفظ موضوع ہے اور حدیث موضوع قابل عمل نہیں ہوتی۔ قال العلامة شوکانی فی الفوائد المجموعۃ وکذا بلغظ من حج فلم یزرنی ۲ فانہ قال الصنعانی ایضا ہو موضوع وکذا قال الزرکشی وابن الجوزی انتہی واللہ تعالیٰ اعلم، المصیب عبد الوہاب (سید محمد نذیر حسین، فتاویٰ نذیریہ جلد ۲ ص ۱۹ طبع لاہور)

۱ جس نے حج اور عمرہ کیا اور میری زیارت نہ کی، اس نے مجھ پر ظلم کیا۔

۲ علامہ شوکانی نے فوائد المجموعہ میں اور صنعانی، زرکشی اور ابن جوزی نے اس حدیث کو موضوع کہا ہے۔

هذا ما عندي واللہ اعلم بالصواب

فتاویٰ علمائے حدیث

جلد 08 ص 102

محدث فتویٰ